

Afterwards, talk to your child. Praise her/him for their achievements and talk about how they can improve.

بعد ازاں، اپنے بچے سے بات کریں اس کی کامیابیوں کی تعریف کریں اور بتائیں کہ وہ کس طرح خود کو بہتر بنا سکتا/سکتی ہے۔

It is important that parents attend. Parents can take a friend to help with translation.

والدین کی حاضری ضروری ہے۔ ترجمہ میں مدد کے لئے والدین کسی دوست کو ہمراہ لا سکتے ہیں۔


Remember teachers are there to help you.....

یاد رکھیں اساتذہ وہاں آپ کی مدد کے لئے ہیں۔۔۔۔۔



# Parents Meetings

## والدین کی میٹنگز



At least once a year, parents/carers will be invited to talk to their child's teacher at school.

ایک برس میں کم از کم ایک مرتبہ والدین/سرپرستوں کو بچے کے اسکول میں بات چیت کیلئے مدعو کیا جائے گا۔

Ethnic Minority and  
Gypsy, Roma and Traveller  
Achievement Service

**Lancashire**  
County  
Council 

The meeting will last about 15 minutes. A longer meeting can be made **for another day, if necessary.**

میٹنگ کا دورانیہ تقریباً پندرہ منٹ ہوگا۔ اگر ضرورت ہو تو کسی اور دن کے لیے ایک طویل میٹنگ رکھی جا سکتی ہے۔

Before the meeting, ask your child if they want you to talk to the teacher about friends, homework, school dinners etc.

میٹنگ سے قبل، اپنے بچے سے بات کریں کہ وہ اپنے دوستوں، گھر کے کام، اسکول کے ڈنرز وغیرہ کیلئے اپنے استاد سے بات تو نہیں کرنا چاہتا/چاہتی۔




What happens during the meeting?

میٹنگز کے دوران کیا ہوتا ہے؟

The teacher will tell you how your child is doing at school.

استاد آپ کو بتائے گا کہ کیا آپ کا بچہ اسکول میں کیسا جا رہا ہے۔



You can look at your child's work and books.

آپ اپنے بچے کے کام اور کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔

The teacher can tell you how you can help your child at home.

استاد آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ گھر پر اپنے بچے کی طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔

You can ask questions about attendance, homework, friends etc.

آپ حاضری، گھر کے کام، دوستوں وغیرہ کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔